

Lección 22 - الدَّرْسُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

إِعْرَابُ الْمَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ - Casos de los diptotas

- Sustantivos de declinación diptota, significa que el sustantivo solo toma dos casos, en la unidad anterior estudiamos algunos de los casos, los cuales no toman tanwin. Estos mismos sustantivos diptotas no toman kasra cuando están en el caso genitivo, solo toman fatha en el caso acusativo, y dhamma en el caso nominativo, y cuando se encuentran en el caso genitivo, toman fatha al igual que en el caso acusativo.

Español	Transliteración	Árabe
De donde eres	/Min aina Anta/?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ أَنَا مِنْ بَاكِسْتَانِ.
Soy de Pakistan	/Ana min Bakistan/	
Cuál es tu nombre? Mi nombre es anwar	/Mas muka/? /Ismi Anwaro/	مَا اسْمُكَ؟ إِسْمِي أَنْوَرٌ.

<p>Con quien volviste? Volví con</p> <p>Athar, él es mi amigo</p>	<p>/Maĉa man rajaĉta/?</p> <p>/Rajaĉtu maĉa Athar, huwa</p> <p>ṣadīqī/</p>	<p>مَعَ مَنْ رَجَعْتُ؟</p> <p>رَجَعْتُ مَعَ أَطْهَرَ، وَهُوَ</p> <p>صَدِيقِي.</p>
<p>Que comiste en la cena?</p> <p>Comí pescado</p>	<p>/Mādhā akalta fil ghadā'i/?</p> <p>/Akaltu samakatan/</p>	<p>مَاذَا أَكَلْتُ فِي الْعَدَائِ؟</p> <p>أَكَلْتُ سَمَكَةً.</p>
<p>Talha no toma en copas de oro ni</p> <p>de plata</p>	<p>/ talhatu lā yashrabua fī fanaĵīna</p> <p>dhahabīyyatin walā fī fanaĵīna</p> <p>fiddīyyatin/</p>	<p>طَلْحَةُ لَا يَشْرَبُ فِي فَنَاجِينِ</p> <p>ذَهَبِيَّةٍ وَلَا فِي فَنَاجِينِ فِضِّيَّةٍ.</p>

تَدْرِيبٌ

كَرِّرْ كِتَابَةَ الْفِقْرَةِ التَّالِيَةِ مَعَ ضَبْطِ أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ

"re escribe el siguiente párrafo colocando los símbolos finales de las palabras".

ذَهَبْتُ إِلَى أَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ. قَبْلَ شَهْرٍ ذَهَبْتُ إِلَى بَارِيسَ، وَبَعْدَهُ ذَهَبْتُ
إِلَى لُنْدَنَ. زُرْتُ بَغْدَادَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَجُدَّةَ قَبْلَ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ. زُرْتُ

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي مَكَّةَ وَالْمَسْجِدَ النَّبَوِيِّ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. عِنْدِي
 أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ. عِنْدِي أَقْلَامٌ وَمَنَادِيلٌ وَمَفَاتِيحٌ وَفَنَاجِينٌ. عِنْدِي خَمْسَةٌ
 أَقْلَامٌ، وَتِسْعَةٌ مَنَادِيلٌ، وَأَرْبَعَةٌ مَفَاتِيحٌ، وَثَلَاثَةٌ فَنَاجِينٌ

- Previamente aprendimos solo una situación en la que un sustantivo toma el caso acusativo:

- Cuando el sustantivo es el objeto de una oración verbal مَفْعُولٌ i.e.,

أَكَلَ حَامِدٌ تَفَّاحًا

- Sin embargo el sustantivo diptota no puede tomar /tanwīn/, si se utiliza como objeto de la oración verbal, tomará solo /fatḥah/ en vez de fatatāin

Imagen	Traducción	Transliteración	arabe
	Yusuf entró en los edificios	Dakhala yusufu manaazila	دَخَلَ يُوسُفُ مَنَازِلَ.

	Los huéspedes salieron de algunos hoteles	Kharaya al duyufu min fanadiqa	خَرَجَ الضُّيُوفُ مِنْ فَنَادِقٍ.
	Compré escritorios de madera	Ishtaraitu makaatiba khshabiyatan	اِشْتَرَيْتُ مَكَاتِبَ خَشَبِيَّةً.
	Nasir tomó las llaves de la casa	Akhada nasirun mafatiihal baiti	أَخَذَ نَاصِرٌ مَفَاتِيحَ الْبَيْتِ.
	El niño compró un lapicero negro	Ishtaral waladu qalaman aswada	اِشْتَرَى الْوَلَدُ قَلَمًا أَسْوَدًا.

اُكْتُبْ حَالَةَ الْجَرِّ لِلْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ:

Escribe el caso genitivo de las siguientes palabras

الْفَنَادِقُ

(los hoteles)

الْمُسْلِمُونَ

(los musulmanes)

مَسَاجِد

Mezquitas

كُتُب

(libros)

مَصَابِيح

(Lamparas)

أَقْلَام

(lapiceros)

المُعَلِّمُونَ

(los profesores)

الْجَامِعَات

(las universidades)

اَكْتُبْ هَذِهِ الْفَقْرَةَ مَعَ ضَبْطِ أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ ثُمَّ تَرْجِمَهَا إِلَى الْإِسْبَانِيَّةِ

"escribe este párrafo con los símbolos de las últimas vocales de las palabras luego tradúcelo al español"

حَامِدٌ طَيِّبٌ. زَوْجَتُهُ مُدْرِسَةٌ. اسْمُهَا آمِنَةٌ. حَامِدٌ لَهُ أَرْبَعَةٌ
أَبْنَاءٌ. هُمْ: حَمْزَةٌ وَطَلْحَةُ وَأَحْمَدُ وَإِبْرَاهِيمُ. أَحْمَدُ وَحَمْزَةٌ

طَالِبَانَ. أَحْمَدُ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ وَحَمَزَةُ طَالِبٌ كَسْلَانٌ

قَالَ يُوسُفُ: عِنْدِي خَمْسَةُ أَقْلَامٍ: هَذَا قَلَمٌ أَحْمَرٌ، وَهَذَا قَلَمٌ
أَزْرَقٌ، وَهَذَا قَلَمٌ أَخْضَرٌ، وَهَذَا قَلَمٌ أَسْوَدٌ، وَهَذَا قَلَمٌ أَبْيَضٌ

قَالَ طَلْحَةُ: عِنْدِي مَفَاتِيحٌ كَثِيرَةٌ. هَذَا مِفْتَاحُ الْغُرْفَةِ، وَهَذَا
مِفْتَاحُ الْحَقِيبَةِ، وَهَذَا مِفْتَاحُ السَّيَّارَةِ

قَالَ سُفْيَانُ: فِي بَلَدِنَا مَسَاجِدٌ وَمَدَارِسٌ كَثِيرَةٌ، وَفَنَادِقٌ قَلِيلَةٌ

مُرَاجَعَةُ الْمُفْرَدَاتِ

Pescado	سَمَكَةٌ	La cena	الْغَدَاءُ
Dorada	الذَّهَبِيَّةُ	Paris	بَارِيسُ
Londres	لَنْدُنُ	Jeddah	جُدَّةُ
Los huéspedes	الضُّيُوفُ	De madera	حَشَبِيَّةٌ